

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited 35 – Dockyard Road, West Wharf, Karachi 74000. Pakistan

UAN +92 21 111 475 725 Fax +92 21 3220 1855 www.pk-consumerhealthcare. gsk.com

25 February 2022

Mr. Muhammad Ghufran Deputy General Manager – Operations Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Karachi.

Subject: PRIOR PUBLICATION OF AGM NOTICE - GSKCH

Dear Sir,

This is with reference to regulation No. 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange.

The 7th Annual General Meeting of our Company will be held on Monday, 21 March 2022 at 2:00 p.m., virtually from our head office located at 35 Dockyard Road, West Wharf, Karachi.

We are enclosing herewith copies (English and Urdu) of the AGM Notice for your reference prior to its publication.

Thank you.
For and on behalf of
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited

Karachi

Mashal Mohammad Company Secretary

Enclosed: As above

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited



Notice of Annual General Meeting 2021

- To receive. Consider and adopt the audited financial sitesments bugether with the Director's and Auditor's Report thereon for the prese rected of 1 December 2001.

 To appear Esternal Auditors of the Compromy for the arranking year, and to first incrementation. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed the appearation of Yould, Contented Auditors and external auditors. The hyper serving 310 December 2002.

 To dest seven (T) Directors, as face by the Econd, in accordance with the provision of Section 156 of the Company, the Large Auditor of these Company, the consideration of the Private Auditor of the Company, the Content of the Company, the C

By the Order of the Board # MASHAL MOHAMMAD Company Secretary

Karachi 28 February 2022

Notes: 1. Virtual AGM and A

to that AMI and Attendance Protocols
Persuar to the SECP Cinciaer No. of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2022, and the clarification issued by SECP bearing no. SMDSE(2)(2)(2)(2)(2)(1) dated 5 December 2021, the proceedings of the ASM shall be held virtually, it view of the starge of COVID-19 cases (Director varient), there instrictors in place for foreign directors and considering the safety, or compared to the Compared to the Compared virtually, the compared to COVID-19 cases are compared to the Compared virtually of the ASM shall be a translated to the Compared virtually invested constant feed to the Compared virtually of the ASM shall be a translated to the Compared virtually invested constant feed to the Compared virtually of the ASM shall be asset to the ASM shall be asset to the Compared virtually of the ASM shall be asset to the ASM and the beauty of all compared asset to the ASM shall be asset to the ASM and the beauty of all compared and impropriets.

ID: 158-949-830

https://vevox.app/#/m/158949830 Session ID: 158-949-830 Email Address: rawail.x.adeel@gsk.com

Please rote that those chareholdes attending virtually will be able to view the Directors and there is good a self-dispose.com
shareholders attending to AcM may submit their respective questions/comments/suggestions along with their name and folio number on the ink/CR Codelmnal address, provided above in this notice
shared of or during the ACM.

2. Book Closure

The draws transfer books of the Company will be closed from 14 March 2022 to 21 March 2022 (both days inclusive). Requestes received at the office of the Stare Register of the Company at CDC Stare
Registers Services Limited, CDC House, 994. Block-B, SM.CH.S., Main Shahrah-Erisal, Kanochi – 74000 at the close of business on 13 March 2022 will be treated in time for the purpose of attendance of
the Arrand General Merry and as applicable.

3. Appointment of Proceies

Serviced Services Limited and the Service AcM of the Company and CDC Stare

3. Appointment of Proceies

timent of Proxise
ses entitled to altered and vote at the AGM may appoint another shareholder as his/her proxy to attend, speak and vote at the AGM on his/her behalf. The instrument appointing proxy must be deed and stamped at the Office of the Share Registers of the Company at CDC Share Registers Services Limited, CDC House, 99-8, Block — B, S.M.C.H.S., Main Sharrah-e-Faisal, Kanachi rud lat (46) hours before the time of the AGM. An attested copy of the shareholder's Computered National Identity, Card (CNIC) must be attached with the proxy form. Pieces refer to section 373 eA, 427 17for that him beniminals. Shareholders before gives placed as was also enquented being the registan CML and over open CAMC of Shareholders (94 of those United Shareholders and Shareholders and Shareholders at the AGM without such CNIC(s). The proxy form is available on the Company's wedsite (by telestranes shareholders).

emong the AUM.
In case of individuals, the account holder or sub-account holder anxiet he person whose securities are in a group account, and their registration details are uploaded and shall administrate histher identity by showing histher original Computered National Sentity Card (CNIC) or original personal respons to the time of alternity the meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution/Power of Altoney with specimen signature of the romines shall be produced (unless it has been provided pointing Provises:

In case of copronite entity, the Sourd of Director's Resolution-Power of Altomys with specimen signature of the rominee shall be produced (unless it has been provided carlier) at the time of the meeting-speciming Produce.

In case of individuals, the account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall sudered the proxy time as per the above requirement.

The proxy from shall be willened by the proxy of the control of the control of the control of the time.

The proxy shall produce hather original CNC control of the security and the proxy form.

The proxy shall produce hather original CNC control original control or the control of the proxy form.

In case of a copronite entity, the Board of Director's Resolutions Power of Altomys with sportmen signature shall be submitted (unless it has been provided carlier) along with proxy form to the Company, proxy them is an waited to the Company selection with the control or the CNCONNIN Copy: Less received the control original control original

For the convenience of shareholders, the Company's E-Dividend Mandate Form is available on the Company's evolute is <u>www.km.commembershorm.or.</u> and a copy is appended in the Annual Angeors as well.

Formation of Annual Auditor (Assource)

SECP Indiguilla SECP (2015) (

Γ	Folio/CDS Account No.	Total Shares	Principal	Shareholder	Joint Shareholder	
			Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

8. Passal SaleX-Extens
February 1. See that SaleX-Extens
February 1. See t

(16)
Lacky discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached shareholders to claim their unclaimed dividences with the company to claim their unclaimed, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and/or under the company to claim their outstanding dividend amounts and or under the company the company to claim their outstanding dividend amounts and of the company their outstanding dividend amounts and of the company their outstanding dividend amounts and of the company their outstanding dividend amounts and other outstanding dividend amounts are company to claim their outstanding dividend amounts and other outstanding dividend amounts are company to claim the company the company their outstanding dividend amounts are company to claim the company that the company The law. Those shareholders, whose dividends still emain unclaimed, are hearby once again requested to approach the Company to claim their conduct at ASM Scalation (256 of Companies Act, 2017) and Regulation 26 of the Companies (General Provisors and Forms) Regulations, 2018, state the Cooke of Conduct of Shareholders, as follows. Scalanio Lists of the Companies Act, 2017 and Regulation 26 of the Companies (General Provisors and Forms) Regulations, 2018, state the Cooke of Conduct of Shareholders as not parentled to eartificate international control of the Companies and the Conduct of Shareholders are not permitted to eartificate in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine thereshees to the agents alternation covered in the notice of the AGM and shall not conclude themselves in a material to disclose any political affiliation. Additionally, the Companies is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

14 Region of Defeators

(2017) Effections
on who seeks to contest the election of Directions shall file with the Company at its registered office, not later than fourteen (14) days before the above said meeting hisher intention to offer
served for the election of the Directions in terms of Section 1990) of the Companies Axt, 2017 logsther with:
hisher intention to offer threadthersoft for election of directions in terms of Section 1990) of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971) of the Axt
that the contest of the Section 1990 of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971) of the Axt
that the contest of the Section 1990 of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971) of the Axt
that the contest of the Section 1990 of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971) of the Axt
that the contest of the Section 1990 of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971, or the Axt
that the contest of the Section 1990 of the Companies Axt, 2017, logsther with the consent to act as director under Section 1971, or the Axt
that the contest of the Axt.

himselfinesself for the election or the unsubs in south so recovered by the control of the companies and the companies a

Delated profess arroy win cline allowes as required under SN OTHE (I/O/19 seader) SN-EVC area of United (I/O/19 seader) Administration of the Company and regulations of the Palatian Stock Exchange; and
a. In the Company is supported and a regulation of the Company is supported and in t

for the first time).

Independent Directors shall be elected through the process of elected on of Directors required under section 169 of the Compress Act, 2017, Independent Directors shall meet the oriental state of the Compress Act, 2017, as well as the Compress (Act, 2017, as we

Regulations, 2016.

SITEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 196(3) OF THE COMPANES ACT_2017.

SECTION 196(3) OF THE COMPANES ACT_2017 requires that a statement of material facts is arreaded by the notice of the government of the purpose of election of directors. As a listed compound of the Companies and the production of the purpose of election of directors. As a listed compound the companies is required to besen to (2) or one thir (104) electronics on the Security and increase and an electronic accurate (104) distanciations in the Security and increase and an electronic accurate (104) distanciations of the Security Mail or companies (104) and the content of the companies of the Security Mail or companies (104) distanciations of the Security Mail or companies (104) distanciation of th

گلیسکواسمته کلائن کنزیومرہیلتھ کیئر یا کستان لمیٹڈ نوٹس برائے سالا نہا جلاس عام 2021

الی بذا کے ذریعے شیئر بولڈرز کومنٹل کیا جاتا ہے کہ گلینکو سمتے کا اُن کنز بھر بیلتے کیئر پاکستان لمیٹڈ کا اُن اول (7) سالانداجال عام 21 کمارچ 2022 بروز جیر 02: 90ریخ ڈیل امور کی انجام دی کے ليے در چول منعقد ۽ وگا۔

ومی امور

ے ۔ فی کے آؤٹ شدہ اکاؤنش بعد ڈائز کیٹرز اور آؤیٹرز رپورٹ برائے سال مختند 31 ومبر

رنے کائل ہیں۔

5 جناف فرحان محمه بارون جناب ايم زيذ معين مهاجر 6 جناب اسامه عباس 7 جناب دلاور میکسانی سیدانورمحود محتر مهائش*توری*ز

قرمهارم ثاكردهيم یگ اُمور

اینز پرس کی منظوری ہے کسی بھی دیگر امور کی انجام دی

مشعل محمد کمپنی سیکریٹر

ىحكم بەرڈ

2022فرورى2022

'' عدد عدد عرف کا مورون کا میدان و از میرون کا میدان کا اگرف سے میان کا مورون کا میدان کا میدا چیانا واد اعتمار می و برست کا، خیر کل وائز کیکرز کے لیے سوئی پایٹریاں، اور قیام میوز شیخ والحال وزیر زيكثرز اور پنجنث كي صحت اور حفاظت كويد نظر ركيته هوئي، ساتوال سالاندا جلال عام ورچونكي منعقد نیاجائے گا، کھنی COVID-1 کے اثرات کی گھرائی جاری رکھے گی اور سالانہ اجلاس عام مے حقاق کی کی جی معلومات کا اطلاع کی فی دیب سائٹ (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com) -82442PUCARS

مر FULA AND کا پیانا ہے۔ 12 اس انتخاباتی مام میں شروعت کرنے واسلے شیخ والفرند الذی طور پر اپنے ادارے کے والے 12 المر 2022 کا کا داراکان 20 میں جو نے بے کیار وسٹر کردا کی بھٹر والڈنڈ کے دوخواست کی جائی ہے کہ دوا ہے تاہم آغاز کہر آفاق میں کا دائیروادوا ہے قبی شاق کا کا دی اکٹین شدہ کا فی ارسان ر بیچنی کارف سے مجتربہ دیلی معرفی معرفی (wawaii.x.adee@gssk.com برای مثل کریں، اور خرروی شعد میں سیسی محمد محمد مدامانی کے لیک ای شاکر رو باب 22ء)) برائے میں کی AGM کے لیک کوئی مجمولی میں سال کے سال PG کو انگون کریں اوا ایل میں بیے تک لگ تک رمانی مالس کریں کیکٹ کمی کافولس مثام تر انگیرہ فوز کا از فود

ای میل ایڈریس rawail.x.adeel@gsk.com

) براعت میران فرصائر با کیچ کر رو چان طرح کرده باز میداندنده (از نگرز کار کرد کیشند مسالاند جارس مامراکا ادران کالا نور کیشند ساتا می می شرک کستان می کرد کستان کی کار کستیکی فی سکوار لے سک می هم کے سائل سے جمایات سالاند اجازاں عام می شرکت کرنے والے اپنے والات کار ادائی بیز بحد اپنے واج ادر افراد فررانگ AP کارانی حاصلات عام سکوانس عمام سکوانس عمام سکوانس عمام ایر ئے گھے ای میل برجع کروانکتے ال

ر المار 2022 مار المار 2028 كار بالمول دونوں دن) بقدر إلى كى اور زی مثقلی کی کوئی بھی ورخواست رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کی جائے گا۔ کمپنی سے شیئر وجسٹرارسینٹرل زرى كى آف ياكستان كمينلى بيشتر رجسترارة بار المنت ، ى ذى ي باؤس B-99، باكس B، النس الم كى را لى مين شابراه يقعل كرا يى 74400 كى ياس 13 مار 2018 كو كار دارك فات تك موسول نے والی مثقلی کی درخواستوں کو سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے، اور جیسالا گوہو، loin at:

پراکسی کا تقرر

ے اور دوٹ دینے کا اٹل کوئی بھی ممبرا پٹی جگہ کسی دوسرے کو اجلاس میں المحافظة ال

غیز برطار ساقی کا ماز (CNC) کا آصار میشاند با کا ماره با کا به این در سک آماد از کا ماره است. کا جائد بران میر باز با در ماره اسال کے گینیز انکامات (20 کا تلاش 1970 اطاقه ارائی کا نیمزز کا حال نیمز برالدر اوران بید اس کیمیز اراؤه این کا باز ادارا کیا نیمز برالدران شیر براندر ارائی کا به کا چین که میشود استان کا داری کا بی عرف اوران کی بینیز اروز شاقی کا داری ایس شیر ی میں اس میں اس میں میں اس میں دی جائے گی۔ پرائن فارم سیکٹی کی دیب سائٹ

www.pkI-ce پردستیاب ہے۔

سسی ڈی سس اکانونٹ ھولڈر ن ڈی کا اکانٹ مولڈرز کو کیا ویڈ ایٹر بھی کھٹی آف یا کتان (SECP) کی طرف سے بیان کروہ

احلاس مس شركت

ر فرون صورت میں انکافات بدلاریا ہے۔ ر فرون صورت میں انکافات بدلاریا ہے۔ بعد ان اور ان کی رخبر خیاب کی تھیدات قائمی کے مطابق جیری اپنے اللہ کا مجبولاتا شاقی بعدر اندران کا رخبر خیاب کو انسان انسان کے انسان میں انسان کے انسان کی میں انسان کا انسان کا میں انسان کی سات کہ کارور ریدا اسٹنی کی صورت میں مامور کردو تھی کے دھوا سے تو نے کے ماتھ (آگر چیلٹو انکام کریا الیا ہو) بورد آف ڈائز کیٹرز کی قرار داد کہ پاور آف اٹارٹی اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کی جائے

پراکسی کی نامزدگی

۔ فرد کی صورت میں ، اکاؤنٹ یا ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور اُ یا وہ فتنی جس کی سکیا ر شیز 'گروپ اؤنٹ میں ہول اور ترمن کی رجسٹریشن کی تفسیدات کی ڈی تی آوا ٹین کے مطابق آپ اوڈ ڈو جول، درج یالا را نَذَ كِ مِطَائِقَ بِرَاسِي قارم جَعَ كروا كي هي ___

راکی قارم پر دوافراد کی گوائق موجود ہو، جن کے نام، ہے، شاخی کارونجرز قارم شن موجود ہ ی حاد اپرورو کرون و من کروندو کا سات ایس ایس کا مارو بر کرون ایس کروندون Beneficial Owne کی شاختی کار دیا یا سیورٹ کی تصدیق شدہ کا بیال، پرانسی قارم سے ساتھ

ے ہیں۔ رائس کوا طلای ٹیل اٹرکٹ کے وقت ا نااملی کمیسوٹرائز فیشافتی کار فی ااملی یا سیورٹ ظام کرنا ہوگا۔ ی مان درج میں ملک کر مصرت میں میں میں میں میں مان مان میں میں گائے میں استعمال میں میں ہوئے۔ کار پوریٹ ایسٹنل کی مصورت میں منطق کی بروڈ آف ڈائز میکٹرز کی قرار رواڈ پا پورٹ افسا الدنی، دعوظ کے نے کے ساتھ واگر میں میں میں المیان کی ایسٹر کی قارم کے ساتھ دی کر امان موقع کے

سی قارم خمینی کی ویب سائٹerhealthcare.gsk.com

سَاحُتِـی کارڈ /این ٹی این کی کاپی جمع

ر میں مصافحات میں موروز کے مصافحات میں موروز کی موروز کا موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کا موروز کی 1) حریر به یک بخیز (داویز خد) مکیافتر کا 20 سال میں موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز گفتر کے مطابق کا دار افرایش موروز کی موروز کیا کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی دوروز

بالعدون وغير والطارة منول نے اب متعد اسپیده موثر شاخی کاروا یا این فی ارپدر مقطلت کی کا بی تعین کمیر کراراتی ان سامیک بار بارگر در است کا جائی ہے کرفری کارور پر یہ تعلق کے شیر راستر اور استان میشور شستوار را لمبطرة می وی می اوس B-199 یا کسال ایس ایم ک انتقا اندین میں شاہر او فیصل تراری پر متح ا کس ۔ ویٹیئر بولڈر چوجوغیر مادی طور پرٹیئر زر کھتے ہیں ،ان سے درخوات کی حاتی ہے کہ و وہا قاعد وطور ں روزہ میں مورد کا ہو گیری میں ہیں۔ اور ایسے ان ان اور سال میں میں ان اور سے ان کا موجود موجود بر شدہ اور بیٹر ان وقت میں میں ہے قادم اسے عمر کسک میں امار ان کا بھٹ میں میں کا موجود کے ان کا موجود کی اور ا والی میں کے جاتم کی کا دو کا کا ایڈراد انجمار میں سے ان کے کہ دوا میں چھٹی کھی کم کر (NTN) اور اور انجمار میں س

ہاداغہ سے بھی وعاق ہود وہ فیاداخریں۔ - المسيح<mark>تر انک فردانج سے قہ یون قائد کئی ادائیگی</mark> - 1021م 2017ء کے طرفر ہر 18 مارڈ آلٹ 17 10 20 میرکیز (اولا پیڈ تر آٹیم) پیکٹھٹر 2017ء میکٹرز کے 2017ء کیکٹل 242 سابق تاہاد کیکٹراں کے درکارے کرد يقى بنائس كە كىرنىر 2017 _ نقد ۋىويدىندى ادانىڭى صرف الىكىرونك ذرائع _ كى جائے گى۔الىداشىئر ں۔ للروز نے درکار ہے کہ دو گھن کے ای ڈلی یڈ نڈٹ میٹڈیٹ قارم کے ذریعے اپنے میک میٹڈیٹ کا میلات کمچنی کے شیئز رجسٹوار کو فریم کریں، جس عمل واضح بوکد(ھ)اکاؤنٹ کا ٹائٹل(ii)اکاؤنٹ . (ibAN(iii) نم ، (iv) وتك كا نام ، (v) برارةًا كانا، كوؤ اورية ، اور (vi) مومالًا نم ووثيتم وللدرز ر الها ۱۹۸۸ ما براه باره هو الهوسة ۳ مراه باره هو الهوسة الهوبية المؤلفة بهولاما بهول مرده ما براهد المواحد ال وقد يبيض توريخ المورك المورك المورك المؤلفة في قال ميان المورك مساعد المورك على المورك المورك المورك المورك ا ما المراحد موركي فوصة فرا يكنيس كمانية المصلف مشاكل المورك 243 كل مطالق المحتمل المورك المورك المورك المورك ا

ے مطلوبہ معلومات فراہم نذکر نے کی صورت میں ڈیو پٹر نگر کا ادائی و کئے کی جازے۔ شیئر ، اولڈرز کی آسانی کے لیے، ممجئی کا ای ڈیو پٹر نئر میٹرنے شارم مجھنی کی ویب دستاب ب اور اس کی ایک کالی لا تدریورٹ کے ساتھ موجود ہے۔

7 سالانه آڈٹ شدہ اکانونشن کی ترسیل College (1808) کا 1970) کا 1808ء راڈ ان کو 2016 کاریے کھڑ کا بازے ہی۔ واٹی مالاریط ان کیٹر ان فران کیٹر اور میں اور ان کیٹر زیریٹ اور ان کیٹر زیریٹ اس بیٹیٹر والدارڈ پڑریے COLONDUS کی کیٹر ڈیٹر پر پارسال کئے ہیں۔ دریا بالاکاروڈ کیٹر کوٹی میں کھی ا میئر ہولڈرز کی منظوری اینے غیر معمولی اجلاس عام منعقد و20 نومبر 2017 میں شیئر ہولڈرز سے منظور ی

نتي مقدد فه طوري بايد فير محول اجهان ما مهم مقدد 20 مير 20 ما تدار موساند به سعود ا 4) 20 ما مير 20 ما 20 مير 20 ما 20 مير 20 م سائٹ www.pk-consumerhealthcare.gsk.com پر دستیاب بیں۔سالانہ ربع دٹ ٹیل کے ڈریلے ان شیئر بولڈ دز کوارسال کی جائے گی جن کے ای میل ایڈریش شیئر رجسٹر ار کے دیکارڈز اُڑ فی میں میں موجود ہیں۔ وہ شیئر جولڈرز جو سالا شدر پورٹ کی پرنٹ شدہ یا الیکٹر انک کا پی چاہیے ہیں وہ صا درخواست فارم جو کہ سالانہ رپورٹ میں اور کیٹی ک می ویب سائنا www.pk-consumerhealthcare.gsk.cor پر دیا گیا ہے، کے ذریعے ورخواست ارسال

8 ڈیڈیڈنڈ پر ٹیکِس کی کٹوتی ٖجھاں اطلاق ھوتا ھو

ے۔ اس مردویا ہا ہے اور الدامات کریں۔ یصورت دیگر ڈیویڈیڈ پر قانون بیٹی اکم میکن پ کو ایکٹو کرائے کے لیے شروری اقدامات کریں۔ یصورت دیگر ڈیویڈیڈ پر قانون میٹی اکم میکن آرڈ پینس 2001 کے پہلے شیڈ ول کے حصہ III کے ڈویٹن ا کوئیٹش 150 کو کے ساتھ پڑھا جائے ، کے طابق تکیل منبا کیا جائے گا۔ ڈیا پیڈیٹر پر وہ جولڈنگ لیکس برائے فائلر اور نان فائلر ہالڑتیب 15 فیصہ

ور30 فيصدكى شرح سيمنها كياجات كاb) فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی طرف ہے موصول ہوئے والی وضاحت بذریعہ لیزنمبر (54) ا الرافع) برائيس المساورة في المساورة المساورة في المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة (2001) [17] برائيسة المساورة المسا

ı	وثيترز كم مطابق هاد يشيتر رجسٹرار كوتر يرطور پرفراہم كريں، جيسا كدويل ميں ويا كيا ہے۔								
ı	يشيئر ہولڈر	K,	پرتهل شيئر هولندر		كل ثيئرز	CDS/L)			
ı					٠,٠	اكاؤنث			
ı	شيئر ہولڈنگ کا	نام اور							
ı	تاب	شناختی کارڈ		كارۇنمبر					
ı	(شيئرز کی تعداد)	برا	(شيئرز کي تعداد)						

۔ رویا و سلو مات از ڈی طور پر ادارے شیئر رشنوارے پاس 11 پر بل 2022 تک آگا جائی چائیں انعمارے دکھی میڈ مورکا بابا سے کا کمیٹرز پر کیل اور جائے شیئر جائدرے پاس کیسال آفداد میں میں اور وہ کے مطابق مزام کیا جائے گئے۔

سعین سنب سیاجا جاہے ہ ۔ لہذا شیئر ہولڈرز ہے درخواست ہے کہ چیٹی بنا کیں کہ آپ کا کمپیوٹرائز ڈشافتی کارڈ نمبرا یا سپورٹ نمبر شرکت کنندہ اُ انوسز ا کاؤنٹ سرومز یاشیئر رجسٹرار (فزیکل شیئر بولڈنگ کی صورت میں) کے ڈر

۔ وکا بری میں شرق موالد زقتی ہے ۱۹ CDC اکا توسیقی میں جو دور است کی جائے ہے کہا جا معنومی کی نمبر (NTT) ہے خلاقہ کڑے کہ میں کہ ہے اس کے اپنے میں کہا ہے کہا ہے کہا گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ بعد الذار کا جہا ہے کہا ہ ۱۲ الذار کا بھی کی کا موسعت مومر کیگئی اس کا کہتے تھے الذار کا بھی کھی کا معادلات

ر برای (۱۳۸۷ میل) در بازی می وه برایدی استان برای می وه برایدی از بازی می وه برایدی کارد میداد از بازی می وه برایدی که میداد از بازی می وه برایدی که میداد نظام برای میداد می از بازی میداد برایدی و میداد بازی میداد میداد بازی میداد برایدی و میداد بازی میداد بازی میداد بازی میداد میداد بازی میداد میداد میداد بازی میداد میدا

ID:

بسروري من ندري المعدد المراقع المواقع كم مطابق أدار مكثر الكرام المواقع المو مركة والمساقع المواقع ا

ر ساز ساز الارورود و با الارورود المارود الما . فارم ہے تبدیل کرے ،اس اندازے ، کہ نشاندی کی حاسکتی ہو،اور SECP کی طرف ہے نشاند ہی کرنے کے در البیان برانسده الفرانسد المساور الفرانس کا و الادور الفرانسده کار سرات کار الفرانسده الفرانسده المورد می اس تاریخ مینی معمولان کی با این دو نامی که می از این موسله افزان کی موال کی سال کی سال می از داده این می مواند میشمزد scripless معروت می رکند که لیامی می اکار کار کار کار کار کار کار او تعمولان کی می روا که میاد فراند اکار کار کار

کے ساتھ براہ راست CDC کے ساتھ کھولیں ۔ ریکی کھاڈے فائد ہدمندے، بشول شیئرز کی تفوظ کسفند کی اور کسی بھی وقت فرونت ، کیونکدا سٹاک بھی گئے کے موجود وقوا ٹین کے مطابق فزینکل شیئرز کی تجارت کی اجاز سٹمیں ہے۔

11 پتے کی تبدیلی اور زکواۃ اسٹیٹس شیر والرزے واسٹ کا مال سے مال مال ساما

شیخ و ولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے درصراؤ پوکس ایڈرسی ایسان میٹس ایڈر لئیر بھی کسی تیم پوئی کے موالے سے کہنی کے شیئر روسراوز وطلق کر رہے فریقال شیئر موالڈنگ سے حالی شیئر مولڈرز نے درخواست کی جاتی کے لئے ذکاتی کی بعدیم توقی کا فادم ہم اگر اس کی الاگام وقع كرائين مزيديدكه CDC كـ ذريلع اپنة ثيئر ذر كف دا ليشيئر بولڈرز _

12 غير كليم شده ڏيويڏنڈ/شيئرز

گیز ارغات 2011 کستخش 244 کستان کانی پیلی ویانی احدادی بادر کردگی ہے۔ بنگہ کانی نے شیخ برطاند زے دامیلی اے کردہ ہے کیرگم طروا پیر پیز کا قانون کے مطال تھم کر رہی ۔ اپنیٹر بھالدان میں کہا بیر پیز اس بھی فرگام شدہ ویں انھی ایک بادر کاردہ است کی باتی ہے کہا ہے آ کاٹ اسٹیٹ لگ

15 ميلان الإسلام المؤلفة و المساهد المساهد المؤلفة و المؤلفة کی سیاتی وائسطگی ظاہر ہو۔ مزید رید کہ کینٹر ایک 2017 سے کیشن 185 کے مطابق کھٹی کو اجازے کیں ہے۔ کروہ کی مجموعت میں ٹیٹر برولڈرز ٹیل آخا انگ تشتیم کرے۔

14 **قانوريكٽوز كا انتخاب** كوئا مى قىم جوالاز كينز كے ان**تخاب** كوئا مى قىم جوالاز كينز كے انتخاب میں حد ليما چاہتا ہوكينز ايك 2017 كے تيشن (3)159 كى

پر پرشدہ قام 28 فردیم کریں۔ - تشکیلی پروفائل بھر آخر ایڈر کئی جینا کہ SECP کی طرف سے جاری کردہ 1196 SRO '' سمب - - - - مصل مسال کا کہ اور ا

۔ ڈکلریشن جس میں تصدیق کی گئی ھو کہ

) وہ حصلقہ قوانین کمپنی کے میمورینڈ م اور آرکیل آف ایسوی ایش ، اور یا کستان اسٹاک ایم پینی کے قوانین

ے آگاہ۔۔ b) وولسفة کمپنیز (کوؤ آف کار پوریٹ گوٹس) ریگولیشنو 2019 کے کی گئی پرویژن یا کسی دومر۔ ہونے والے قانون ،اصول ہار یکولیشنز کے لحاظ ہے کمپنی کا ڈائز بکٹر ہونے کے لیے ناافل ٹیٹار ۔ _ ریاکتانی شہری ہونے کی صورت میں) مؤثر قومی شاہتی کارڈ کیا کا پار (فیر ککی شہری ہونے کی صورت میں) پاسیدرے ، اور TDC اور فیرونر کی ان کا کارٹ فیسرا CDC افریکٹر (اکاؤٹٹ فیسرا CDC سب اکاؤٹٹ فیسر(ان افر

ریالاً کمیسی جونگلی بارا به ماداره و قل کررسیدوں)۔ 16 - فرودی رادار کیٹرز کا انقاب کیٹرز ایکٹرز کیٹرز کا کے 2017ء کے 2017 کے وائز کیٹرز کے ایکٹوں کیٹر کیٹر کا کار سے تھے کیا جائے کا سے طور قائد وائڈرز کیٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار)ریگولیشنز 2018 ش دیئے گئے معیار پر پورے اتر نے چاہیس بےووفٹار ڈائز یکٹا کے طور پر ڈائز کیٹر ز کے انگشن میں حصہ لینے کا ادادور کئے دالے امید داران کو درج ڈیل امنا فی دستا ویز ا کام کر انی جوں گی اساد کمپٹیز (کرؤ آ آ نے کار پورٹ کونش) ریگزلیشنو (2019 کے کیٹشن (6) کے تحت آخ قار دائز مکشر (ز) کی طرف نے ڈکلیریشن ، اور اور مناسب قدر کے نان جوڈیٹل اسٹامپ بیپیریر هفت نامد کو کمیٹیر (خورجنار دائز مکشر نکا حقاب اور طریقت کا ر) مگل یشتر 2018 کی شرائط پر پورااز تا کراتر تی ہے۔

پنیز ایکٹ2017کے سیکشن(3)166کے تـد مادی حقائق کی اسٹیٹمنٹ

. کمپینزا یکٹ 2017 کے تیکٹن 166 کا قاضائے کہ ایک مادی خلاکق برمنی اشینٹ سالانہ اجلاس عام . نوٹس کے ساتھ مشلک کی جائے، جو ڈائز کیٹرز کے انتخاب کے لیے بالیا ''کیا ہو۔ لمبطا کیٹنی ہونے کے ناملے، G S K تحزیم رابیلتہ کیئر یا کتان کے لیے، لمبط کھیٹیزز کوڈ آف کارپوریٹ گورش ر کیا گئیے 2017 کے مطابق اپنے ہورڈ ملی بادرڈ کسند(2) پائیکہ ایکانیال (1330) میٹر ویڈروکٹروکٹروٹر کا سالطان کو ملی و یا دو ہوں ، خود قال داور کیٹرز اپنے بورڈ ملی رکھنا خرودی ہے۔ ای طرح ، خواقی بدائے کی ملیٹری ایک 2017 کے سیکٹل (155 کس باوان کردوہ اوز کیٹرز کے اختیاب سے لم ایڈ کا سرک سے مالی بورڈ سالم کا مراز کا .و(2) یا ایک تہائی(1/3rd)شیئر مولڈرز، جو مجمی تعداد میں زیادہ ہوں، مود مخار ڈائر یکٹرز کا انتقاب لياجائ_

ہے ہے ۔۔۔ میدوار ان کی طرف سے انکیشن میں حصہ لینے کا نوٹس/ ارادے کے بعد بھپنی درج 5 میل معیار کے مطابق مخو ہمیور ان اول مرابع کے لیے مقدم کرنے والے ان الان استعماد میں اول ان الورے علیہ ان المان کی انتخاب کے انتخاب ک - انتخابات کے اللہ موروان کیا انتخابات اشتخیاب آف کار اور بیٹ گورش کی طرف سے مرتب کے جائے والے باج ایس نامی کاوروان کیئر کے ہم کی شمالیت۔

۔ اسپیوٹی میں ماں واحد اور سرسے میں موجید۔ - اسپیوڈ ایس کی موز دان آگائیا ہے تھی مصالات اور قریب کا میا کزد ایس ایس کا - کمیٹ کا P1G کے ڈیا چیڈ میٹن رہے کی کہ انجو سے پہلے اٹی مطلوبہ انتیاد کا (diligence) کا کہ کہ کہ کہ میں دار کیٹیز کا کے 2017 سے کہٹے (2)16 اٹس ایس ایس کروٹروٹر معیار پر پورااتر تا/اتر تی ہو۔